



تم اپنہ گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ، ان میں رہو اور انہیں (دین) سکھاؤ اور (نیکی کا) حکم دو دیکھو یہ نماز فلاں وقت اور یہ نماز فلاں وقت پڑھنا جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص تم میں سے اذان دے اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے

ابو سلیمان مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سب نوجوان اور ہم عمر تھے ہم آپ کے ساتھ بیس راتیں رہے آپ بہت رحم دل اور نرم خو تھے آپ کو خیال ہوا کہ میں اپنہ گھر کے لوگ یاد آ رہے ہیں چنانچہ آپ نے ہم سے ہمارے ان اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جنہیں ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے ہم نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا آپ نے فرمایا کہ تم اپنہ گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ، ان میں رہو اور انہیں (دین) سکھاؤ اور (نیکی کا) حکم دو دیکھو یہ نماز فلاں وقت اور یہ نماز فلاں وقت پڑھنا جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص تم میں سے اذان دے اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے امام بخاری کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ ”اور نماز اسی طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا“

[صحیح] [متفق علیہ]

مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ”ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم سب نوجوان اور ہم عمر تھے“ یہ عام الوفود یعنی ہجرت کے نویں سال کا واقعہ ہے سب لوگ نوجوان تھے اور نبی کے پاس انہوں نے بیس راتوں تک قیام کیا یہ لوگ اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے آئے تھے مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ”آپ بہت رحم دل اور نرم خو تھے آپ کو خیال ہوا کہ میں اپنہ گھر کے لوگ یاد آ رہے ہیں“ یعنی ہمارا ان سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے چنانچہ آپ نے ہم سے ہمارے ان اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جنہیں ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے ہم نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا آپ نے فرمایا کہ تم اپنہ گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ، ان میں رہو اور انہیں (دین) سکھاؤ اور (نیکی کا) حکم دو اور فلاں نماز کو اس وقت پڑھو اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرائے امام بخاری کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا“ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بہت رحم دل و نرمی میں مشہور تھے آپ لوگوں کے ساتھ سب لوگوں سے بڑھ کر رحم دل تھے اور سب سے زیادہ نرم خوئی سے پیش آتے تھے آپ بہت رحیم بھی تھے اور شفیق بھی آپ نے جب یہ دیکھا کہ ان لوگوں کو اپنہ گھر والے یاد آ رہے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ اپنہ پیچھے کن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں؟ انہوں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنہ گھر والوں کے پاس لوٹ جائیں ”اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرائے“ یہ امامت کے لیے بڑے کو مقدم کرنے کی دلیل ہے بات نبی کے اس فرمان کے منافی نہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ: لوگوں کو وہ شخص امامت کرائے جو سب سے زیادہ قرآن کا قاری ہو کیونکہ یہ سب نوجوان ایک ہی وقت میں آئے تھے اور ظاہر ہے کہ قرآن قرآن کے لحاظ سے ان کے مابین کوئی واضح فرق نہیں تھا اور اس معاملہ میں وہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہی تھے ان میں سے کوئی بھی دوسرے سے زیادہ قرآن کا قاری نہیں تھا اس لیے آپ نے فرمایا: ”تم میں سے جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرائے“ کیونکہ قرآن کے معاملہ میں وہ سب برابر یا قریب قریب تھے جب یہ لوگ قرأت، سنت اور ہجرت کے معاملہ میں برابر ہو گئے تو پھر امامت کا حق بڑے کا ہو گا اور

وہ اسے ہی مقدم کریں گے آپ نے فرمایا: ”نماز ویسے پڑھو جیسے تم میں نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے“ یہ اس نبوی طریقہ کار کی تاکید ہے کہ آپ نے قول و فعل دونوں کے ذریعے تعلیم دیا کرتے تھے جس شخص نے سکون کے ساتھ نماز نہ پڑھی اسے آپ نے یہ فرما کر تعلیم دی کہ ”جب نماز کے لیے تمہارا کھڑا ہونا کا ارادہ ہو تو اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ رخ ہوجاؤ اور پھر قرآن کا جو بھی حصہ چاہو اسے پڑھو اور پھر رکوع کرو... الخ“ جب کہ ان نوجوانوں کو آپ نے فعل (عمل) کے ذریعے تعلیم دی

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3059>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

